



## بنگلہ دیش انڈر 16 کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان

- مہمان ٹیم 2 تین روزہ اور 3 ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز میں شرکت کے لیے 22 اکتوبر کو پاکستان پہنچے گی

لاہور، 21 اکتوبر 2019ء :

پاکستان کرکٹ بورڈ 2 تین روزہ اور 3 ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے بنگلہ دیش انڈر 16 کرکٹ ٹیم کی میزبانی کرے گا۔ سیریز 25 اکتوبر سے 8 نومبر تک جاری رہے گی۔ بنگلہ دیش انڈر 16 کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی مکمل بحالی کی طرف ایک اور قدم ہے۔

مہمان ٹیم سیریز میں شرکت کے لیے 22 اکتوبر کو راولپنڈی پہنچے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز کے آریبل گراؤنڈ راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔

بنگلہ دیش انڈر 16 کرکٹ ٹیم کی جانب سے یہ پاکستان کا جوابی دورہ ہے۔ اس سے قبل قومی انڈر 16 کرکٹ ٹیم نے رواں سال اپریل اور مئی میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔

اس دوران بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم بھی 3 ٹی ٹوٹی اور 2 ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز کھیلنے کے لیے لاہور میں ہی موجود ہوگی۔

سری لنکا کرکٹ ٹیم کے کامیاب دورہ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش انڈر 16 کرکٹ ٹیم کی پاکستان آمد ملک میں مزید انٹرنیشنل ٹیموں کی آمد کی راہ ہموار کرے گی۔ شیڈول کے مطابق سری لنکا ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کو دسمبر اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو آئندہ سال کے آغاز میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔

ذاکر خان، ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی:

ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی زاکر خان کا کہنا ہے کہ وہ انڈر 16 کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھجوانے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے مشکور ہیں۔ سیریز کے انعقاد سے دونوں

بورڈز کو مستقبل کے کرکٹرز کی تلاش میں مدد ملے گی۔

ذاکر خان نے کہا کہ سیریز پاکستان میں انٹرنیشنل میچوں کے کامیاب انعقاد کی ضامن ہوگی۔

### اسکواڈز:

قومی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے سربراہ سلیم جعفر نے تین روزہ اور ایک روزہ سیریز کے لیے قومی انڈر 16 کرکٹ ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔

تین روزہ سیریز کے لیے قومی انڈر 16 کرکٹ ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی:

عالیان محمود (کپتان)، محمد وقاص (نائب کپتان)، محمد شہزاد، علی حسن، اسیر مغل، رضوان محمود، خالد خان، علی اسفند، عباس علی، احمد خان، ابرار افضل، فرہاد خان، ایاز شاہ، افضل منظور، حسیب عمران اور محمد سکندر۔

ایک روزہ سیریز کے لیے قومی انڈر 16 کرکٹ ٹیم ان کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی:

عالیان محمود (کپتان)، محمد وقاص (نائب کپتان)، محمد شہزاد، علی حسن، زین انور، رضوان محمود، خالد خان، علی اسفند، عباس علی، احمد خان، اسیر مغل، اسماعیل خان، منیب واصف، زبیر شنواری، حسین اور ایتسام رحمن۔

### ٹیم منیجمنٹ:

اعجاز احمد (ہیڈ کوچ اور مینیجر)، عبدالمجید (اسسٹنٹ کوچ)، صبور احمد (ٹرینر)، حافظ نعیم الرسول (فزیوتھراپسٹ) اور عثمان ہاشمی (ٹیم اینالسٹ)۔

### شیڈول:

- 25 سے 27 اکتوبر: پہلا تین روزہ میچ بمقام کے آر ایل گراؤنڈ راولپنڈی
- 30 اکتوبر سے یکم نومبر: دوسرا تین روزہ میچ بمقام کے آر ایل گراؤنڈ راولپنڈی
- 4 نومبر: پہلا ایک روزہ میچ بمقام کے آر ایل گراؤنڈ راولپنڈی
- 6 نومبر: دوسرا ایک روزہ میچ بمقام کے آر ایل گراؤنڈ راولپنڈی
- 8 نومبر: تیسرا ایک روزہ میچ بمقام کے آر ایل گراؤنڈ راولپنڈی

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

**ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)  
@therealpcb  
@PakistanCricketBoard  
@PakistanCricketOfficial  
@therealpcb

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4